# LIFESTYLE



HYDERABAD: Women purchasing dry fruits from a vendor at a City road.—APP

# Julia Roberts breaks silence on 'heartbreaking'death of Matthew Perry

LOS ANGELES (News Desk): Julia Roberts is remembering her ex-boyfriend, the late "Friends" star Matthew Perry. In an interview with "Entertainment Tonight," the actress reflected on the loss of Perry, who died in October at the age of 54. "The sudden passing of anybody so young is heartbreaking," Roberts said. "I

think that, you know, it just helps all of us just appreciate what we have and to keep going in a positive way as best we can." The pair dated for about three months in the 1990s, around the time Roberts appeared as a guest star on "Friends." Perry wrote about their brief romance in his memoir "Friends, Lovers and the Big Ter-

rible Thing." "I sent her three dozen red roses and the card read: 'The only thing more exciting than the prospect of you doing the show is that I finally have an excuse to send you flowers," he shared in his book. Roberts, he wrote, seemed as if she "was placed on this planet to make the world smile, and now, in particular, me.

ARIF HABIB LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the Special Business at the Extraordinary General Meeting of Arif Habib

Limited (the "Company") to be held on Tuesday, December 26, 2023 at 11:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through electronic means. Designated email address

of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Additional Information and enclosures (In case of representative of body

/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution

through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following

No. of

ordinary

shares for

which

votes cast

We asser

to the

Resolution

(FOR)

dissent to

the

Resolution

(AGAINST)

chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com

Registered Address:

Number of shares held

- (copy to be attached)

Name of Authorized Signatory:

Name of shareholder / Joint shareholder(s) / Proxy Holder(s)

CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)

CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory

resolution by placing tick ( $\checkmark$ ) mark in the appropriate box below:

Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.

corporate, corporation and Federal Government)

Nature and Description

of resolution

Pursuant to the Order of the High

Court of Sindh at Karachi dated

November 23, 2023, passed in Civil

Miscellaneous Application No.

2559 of 2023, in Petition bearing J.

C. M. No. 31 of 2023, to consider

and, if thought fit, to pass, with or

following resolution for, inter alia,

reorganization of the Company

and its holding / parent Company,

Arif Habib Corporation Limited

("AHCL"), involving the bifurcation

/ separation of the Company into

two segments / undertakings, i.e.

the Demerged Undertaking and

the Retained Undertaking, and merger, by way of amalgamation,

of the Demerged Undertaking with and into AHCL, along with ancillary

matters thereto, in accordance

with the Scheme of Arrangement

dated November 17, 2023, as approved by the Board of Directors

of the Company on November 17,

RESOLVED THAT the Scheme of

Arrangement dated November 17, 2023, prepared under the provisions of Sections 279 to 283

and 285 of the Companies Act,

2017, for, inter alia, the bifurcation

/ separation of Arif Habib Limited into two segments / undertakings

i.e. the Demerged Undertaking and

the Retained Undertaking, and

merger, by way of amalgamation,

of the Demerged Undertaking with

and into Arif Habib Corporation

Limited, along with all ancillary and

incidental matters thereto, placed

before the meeting for

consideration and approval, be and

is hereby approved and adopted,

along with any modifications , amendments required

conditions imposed by the High

Court of Sindh at Karachi, subject

to sanction by the Honorable High

Court of Sindh at Karachi, in terms

of the provisions of the Companies

a corporate restructuring

modification, the

**AGENDA ITEM - A** 

(Special Business)

without

## **Beyonce breaks** Dec box office records with Renaissance concert film

**NEWS DESK** LOS ANGELES



Beyonce's Renaissance: A Film by Beyonce is bringing in phenomenal results. The singer's eagerly awaited concert film Renaissance, which made a healthy \$22 million its opening weekend, has helped revitalise the movie office. The \$22

million total was just less than the weekend record of \$24.2 million set 20 years ago by Tom Cruise's The Last Samurai, making it an exceptionally large total for the first weekend of December, which is often a stale weekend, according to Deadline. The performance set the stage for an overall weekend total of \$95 million, the most for the first weekend in December since 2018. The Marvels, which now has a domestic total of \$80.7 million and a global gross of \$197 million, will soon end its stint as the lowest-grossing MCU film ever. On Sunday, it was also reported that Marvel will no longer be disclosing its overseas grosses for the film. Renaissance, which has received a flawless 100% rating on Rotten Tomatoes and has been hailed by reviewers, follows Beyonce on her global Renaissance tour. The second concert film from the chain this year, Renaissance, debuted exclusively in AMC Theatres following Taylor Swift's The Eras Tour, which brought in \$178.8 million domestically and \$249.5 million internationally.

#### Nicaragua's Miss Universe franchise owner charged with conspiracy following pageant victory

**NEWS DESK NEW YORK** 

Nicaraguan police late on Saturday charged the owner of the local Miss Universe franchise with conspiracy, money laundering and spreading fake news, just weeks after the Central American nation's first victory in the pageant. Authorities have accused Karen Celebertti, director of the Miss Nicaragua franchise, her husband and son with conspiracy against the government, according to a statement issued by the national police. Celebertti's local Miss Universe organisation has been used to "turn pageants into political traps and political ambushes, financed by foreign agents," the police statement said. Reuters was not immediately able to contact Celebertti or her representatives for comment. Celebertti was banned from entering the country on Oct. 21, and her husband and son have been detained in Nicaragua on accusations of conspiracy dating back to 2018. Authorities said they played a role in organizing anti-government protests. Nicaragua's Sheynnis Palacios won the title of Miss Universe on Nov 18.

#### Florence Pugh hit by thrown object during her film promotion

SÃO PAULO (News Desk): Actress Florence Pugh was hit in the face by a thrown object on Sunday during an appearance at a Comic Con event in Brazil. Footage shows her on stage promoting her latest film Dune: Part Two alongside co-stars Zendaya, Austin Butler and Timothée Chalamet. While on stage an object was thrown in her direction, appearing to come from the audience. The 27-year-old Oscar-nominated actress was hit in the right eye. Earlier in the evening, Pugh told the audience at the event in São Paulo that it felt "really, really special" appearing in the sequel to the hit sci-fi film. The film is set to be released in March 2024. Pugh is the latest in a list of celebrities to be hit by objects thrown by fans while on stage. Earlier in the year Harry Styles was also hit in the eye with a sweet at a gig in Austria, and Pink looked uncomfortable after a bag of human ashes was thrown on stage during her set at BST Hyde Park.

# ARIF HABIB LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

This is to inform you that pursuant to the Order of the High Court of Sindh at Karachi dated November 23, 2023, passed in Civil Miscellaneous Application No. 2559 of 2023, in Petition bearing J. C. M. No. 31 of 2023 (the "Order"), an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Arif Habib Limited (the "Company") will be held on Tuesday, December 26, 2023 at 11:00 a.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, including through video link facility, to transact the following business:

A - SPECIAL BUSINESS

Pursuant to the Order, to consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution for, inter alia, a corporate restructuring / reorganization of the Company and its holding / parent company, Arif Habib Corporation Limited ("AHCL"), involving the bifurcation / separation of AHL into two segments / undertakings, i.e. the Demerged Undertaking and the Retained Undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the Demerged Undertaking with and into AHCL, along with ancillary matters thereto, in accordance with the Scheme of Arrangement and the Newsphor 17, 2023, as a prepared by the Board of Directors of the Company on Newsphor 17, 2023. dated November 17, 2023, as approved by the Board of Directors of the Company on November 17, 2023. The resolution to be passed by the requisite majority of the members of the Company under Sections 279 and 282 of

The resolution to be passed by the requisite majority of the imminers of the Companies Act, 2017 is as under:

"RESOLVED THAT the Scheme of Arrangement dated November 17, 2023, prepared under the provisions of Sections 279 to 283 and 285 of the Companies Act, 2017, for, inter alia, the bifurcation / separation of Arif Habib Limited into two segments / undertakings i.e. the Demerged Undertaking and the Retained Undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the Demerged Undertaking with and into Arif Habib Corporation Limited, along with all ancillary and incidental matters thereto, placed before the meeting for consideration and approval, be and is hereby approved and adopted, along with any modifications / amendments required or conditions imposed by the High Court of Sindh at Karachi, subject to sanction by the Honourable High Court of Sindh at Karachi, in terms of the provisions of the Companies Act, 2017."

provisions of the Companies Act, 2017. The Scheme of Arrangement will be subject to the subsequent sanction of the High Court of Sindh at Karachi.

B - ANY OTHER BUSINESS

To consider any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board Muhammad Taha Siddiqui

Karachi: December 5, 2023

The share transfer books of the Company will remain closed from December 18, 2023 to December 26, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's share registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [the Company's Share Registrar (CDCSRSL)), by the close of business on Friday, December 15, 2023 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the EOGM.

A member of the Company entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the EOGM as are available to a member.

member.

Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:

i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the EOGM.

ii. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of the Company's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names address. CNIC numbers and signatures

persons with their names, address, CNIC numbers and signatures. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

v. In the case of proxy by a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

ONLINE PARTICIPATION IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

In order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with the members. Accordingly, those members and permitted participants who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at <a href="mailto:secretariat@arifhabibltd.com">secretariat@arifhabibltd.com</a> with subject of 'Registration for AHL EOGM 2023' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Member CNIC No. Folio No. / CDC Account No.

Video Link to join the EOGM will be shared with only those members whose email, containing all the required and correct particulars, are timely received at <a href="mailto:secretariat@arifhabibltd.com">secretariat@arifhabibltd.com</a>. The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0321-PROVISION OF VIDEO LINK FACILITY:

If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the EOGM through video link, the Company will arrange video link facility in that city (subject to availability thereof in such city).

Company will arrange video link facility in that city (subject to availability thereof in such city).

Members, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

VOTE CASTING IN-PERSON OR THROUGH PROXY

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

E-VOTING / POSTAL BALLOT

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017, and SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in accordance with the conditions mentioned therein. The following options are being provided to members for voting: therein. The following options are being provided to members for voting:

i) E-VOTING PROCEDURE

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of

members of the Company by the close of business on December 15, 2023.

The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the evoting service provider.
Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through

electronic signature or authentication for login.

E-Voting lines will start from December 20, 2023, 9:00 a.m. and shall close on December 25, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. POSTAL BALLOT

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at <a href="www.arifhabibltd.com">www.arifhabibltd.com</a> or use the same as annexed to this Notice and published in newspapers.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) OR through the registered email address of the member at <u>chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com</u> with subject of 'Postal Ballot for AHL EOGM 2023 by Monday, December 25, 2023 before 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date

shall not be considered for voting.

(c) Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman of the meeting shall be the deciding authority.

PROVISION OF INFORMATION BY MEMBERS:

To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all members are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / the Company's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following :

Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form /

Tax Exemption Certificate Provision of relevant details including valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any unclaimed / future cash dividends, if any

In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint

Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the members having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions. Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, including mobile number / landline number and email address (if available).

Promptly notify any change in mailing address, email address and mobile number by writing to the office of the Company's Share Registrar (CDCSRSL).
 Copies of the Memorandum and Articles of Association of the Company; Statement under Section 134(3) of the

Act in respect of the material facts of the special business; Statement under Section 281 of the Act; Scheme of Arrangement dated November 17, 2023; Swap Computation Letter dated November 15, 2023 issued by Yousuf Adil, Chartered Accountants; and any other information relevant to the special business in respect of the Company shall be available upon request, and for inspection, by any person entitled to attend the EOGM from the registered office of the Company, located at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi, free of cost during normal office hours, from the date of this notice till the conclusion of the EOGM. The said information shall also

be placed for inspection of members of the Company during the EOGM.

The notice of the EOGM along with the statements, the Scheme of Arrangement and the latest annual Audited

Financial Statements have also been placed on the website of the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 CONCERNING THE SPECIAL BUSINESS

The statement pertaining to the material facts of the special business to be transacted at the EOGM, including the nature and interests of the directors of the Company with respect to the Scheme of Arrangement, along with any ancillary information, may be obtained upon request by any person entitled to attend the Extraordinary General Meeting from the registered office of the Company situated at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi, free of cost during normal office hours.

cost during normal office hours.

The aforesaid statement has been sent along with the notice of EOGM to the members.

STATEMENT UNDER SECTION 281 OF THE COMPANIES ACT, 2017 CONCERNING THE SPECIAL BUSINESS

The statement under section 281(1)(a) of the Companies Act, 2017 setting forth the terms of Scheme of Arrangement and explanation of its effects, including the interests of the directors of the Company, and the effect of those interests of the Company and the effect of those interests of the Company and the effect of the Company and the along with other ancillary information, may be obtained upon request by any person entitled to attend the Extraordinary General Meeting from the registered office of the Company situated at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi, free of cost during normal office hours.

The aforesaid statement has been sent along with the notice of EOGM to the members.

#### Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport No. (in case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Act, 2017.

NOTES:

This postal Poll paper is also available for download from the website of Arif Habib Limited at https://arifhabibltd.com/investors relations/BallotPaper-EOGM-2023-AHL.pdf Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper as published in newspapers.

Dully filled postal ballot should be sent to the Chairman of Arif Habib

Limited through post at Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road

Karachi, Pakistan (Attention of the Company Secretary) OR through

Copy of CNIC / Passport No. (in case of foreigner) should be

Postal ballot forms through post or email should reach the

Chairman by Monday, December 25 2023 before 5:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time, will not be

the registered email address of shareholder

chairman.generalmeeting@arifhabibltd.com

enclosed with the postal ballot form.

considered for voting.

Signature of sharehold	der(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In case of corpor	rate entity, please affix company stamp)
Place:	Date:

1	(in case of corporate entity) please and company stamp				
l	Place:	Date:			

**Registered and Corporate Office:** 

Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan. Phone: +92 21 38280282-3 | Fax: +92 21 3242 9653 | Email: info@arifhabibltd.com | Web: www.arifhabibltd.com كامرسىياسر



كالشنبول مين ملاقات كيموقع يركروپ فوثو

### تر کیہاور یا کستان وزرائے تجارت کی ملاقات

ڈاکٹر گو ہراعجاز اورعمر بولات کا تجارتی تعلقات مضبوط بنانے پرز ور تجارت، صنعت وپیدا دار ڈاکٹر گوہرا عجاز نے ترک ہم منصب H.E مسرعمر بولات سے ملاقات کے دوران کہا کہ تر کئے اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ تجارت كوبرهانے كوسيع امكانات موجود بين اور

کہ دوطرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات اس سطح پر البہتر بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔

اسٹر پنجگ ملٹی سالہ تعاون کی غیر مخدوم کمیونٹیز کیلئے مالی بہتری کوممکن بنائے گا

تلاش کرنے پرزوردیا۔ مزید برآل، انہول نے کہا | درمیان باہمی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید

كراچى (كامرس رپورٹر) ينم، جو ياكستان كاپهلاا يمويدو افروغ كے لئے ايك اہم سنگ ميل ب\_ہم ماحول فائنانس پلیٹ فارم ہے، این سر گرمیوں کومنطقی انجام تک بنجانے کے لئے ماسر کارڈ کے ساتھ شراکت داری کررہا ب-ماسر كارد، ايك عالمي فنانس ايند عيكنالوجي مميني ب جوعالمی سطح پرمالی شعبے میں اپنا کام سرانجام دے رہی ب-ال شراكت سايك بات واضح موتى ب،ك پاکستان میں ایمبیڈڈ فنانس پلیٹ فارم کی سنگ بنیاد رکھنے کا پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔اسٹر پنجگ ملٹی سالہ تعاون پاکستان کی غیر محدوم کمیونٹیز کے لیے مالی بہتری کو ممكن بنائے گا۔ ايمبيد ﴿ فَا تَنانَس عالَى عَلَى ير برشوب كے كمپنيول كے ليے ايك فائدہ مند پليٹ فارم ثابت ہوا ہے کیوں کے بیان کمپنیوں کو ایپلی کیشن پروگرامنگ انٹرفیس (API) کے ذریعے اپنے مالیاتی نظام کو ہا آسانی بینڈل کرنے کی صلاحت فراہم کرتا ہے۔امبیڈڈ فائنانس کے دریعے کمپنیال میکنٹس، قرضہ جات اور انشورنس جیسی مالی سمولیات کواین پروو کش میس API کذریع شال کرسکیس گی۔ اس کاسب سے بڑافا کدہ بید ہے کہ کمپنیوں کو ان چیزوں کے لئے سی قیم کی کوئی

ے" تقریب سے ماٹر کارڈ مینا کے کلسٹر جزل فیجر جے۔ خلیل، نے کہا کہ "ہمیں فوقی ہے کہ ہم ٹیم کے ساتھل کرایمبید ڈفائنانس کی قوت کے ذریعے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کومزید متحرک کرنے میں مدوفراہم کر

رہے ہیں۔جارا تعاون ہمیں جارے مارکیٹس کے غیر ميكنالوجي خود بنانے كى ضرورت نبيس يڑے كى۔ نيم كى مخدوم حصول تک پہنچانے میں مدفراہم کرےگاneem

# یوا ہے ای کا25 ارب ڈالرز کی سر ماپیکاری خوش آئندہ، رفیق سلیمان

کتان کی معیشت کواشحکام ملے گا اور ملکی برآ مدات میں بھی تیزی آئے گی،سابق چیئر مین ریپ كرايي (كامرس ريورثر) الف في ي ي ي آئي من برنس العينات يوا اي كونسل جزل ذاكم بخيت عتيق مین بینل کی جانب سے نائب صدر کے الرمیتی کی جانب سے پاکتان میں سرمایہ کاری کی امیدواراوررائس ایکسپورٹرز ایسوی ایش آف اخوشخری سے پاکستان اور یواقے ای کے کاروباری پاکستان (ریپ) کےسابق چیئر مین رفیق سلیمان نے متحدہ عرب امارات(یو اے ای) کی جانب سے یا کتان میں20سے25ارب ڈالرز کی سرمایکاری کے اعلان كوخوش آئد قراردية موسة كهاكه يواساى بلاشبه ياكتان كامضبوط ترين دوست إاكتان ك مشكل حالات ميس بميشه بي يواساى في ياكستان كاساته ديا ب اورموجوده حالات ميس كراچي ميس

رویے کے سود سے

كراچى (كامرس رپورٹر) پاكستان مركدمائل ايمنجينج لميشڈ میں جمعہ کے دن میطلز ، انرجی ، کوٹس ، فاریکس اورا تڈیکس

کے 21.996 بلین روپے مالیت کے سودے ہوئے جن کی مجموعی تعداد 20,223 رہی۔ سب سے زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 11.923 بلین روبے ربی۔ جبکہ کرنسیز کے بذریعہ کوس ہونے والے سودول كى ماليت 3.584 بلين روي، وبليونى آئى خام تیل کے سودول کی مالیت 2.621 بلنین روپے، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.496 بلین

46,644 ملین روپے اور برینٹ کے سودول کی مالیت

کراچی (کامری رپورٹر) ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق میراکی ڈسکوز بلنگ انگوائری رپورٹ میں بنایا كياب ميٹرريڈنگ كے لئے كالكٹرك بينڈ ميلڈ رویے، جاندی کے سودول کی مالیت 934.599ملین روپہڈی ہے کے سودول کی مالیت 557202 ملین روپ، پائینم کے سودوں کی مالیت 469.894 ملین روپ قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 111.703 ملین روپے،ایس ٹی 500 کے سودوں کی مالیت

87.542 ملين روبي ميليديم كي سودول كي ماليت 86.976ملین روپے، جایان ایکیوٹی کے سودوں کی مالیت 47.580 ملین رویے، کا پر کے سودول کی مالیت

ملک میں دالوں کی قیمت میں نومبر کے دوران کمی

دال مسوراوسط رینل قیمت320.98 روپے فی کلوگرام ریکارڈ کی گئی

میں دال مونگ کی فی کلو اوسط قیت 279.57 كرايى (كامرس ريورش ملك بيس دالول كى قيت روپےریکارڈ کی گئی تھی۔اعدادوشار کےمطابق نومبر میں نومبر کے دوران عمومی کمی کار جمان ریکارڈ کیا گیا مين دال ماش كي في كلواوسط ريثل قيمت 520.96 ہے۔ ادارہ شاریات کی طرف سے جاری ماہانہ روپےریکارڈ کی کئی جوا کتوبر کے مقابلے میں 1.68 رپورٹ کے مطابق نومبر کے دوران دال مسوراوسط رينل قيت 320.98 روپ في كلوگرام ريكارو كي فصد كم ب- اكتوبريس دال ماش كي في كلو اوسط ريش قيمت529.88روپےريكارڈ كى كئے تھى۔اى کئی جوا کتوبر کے مقابلے میں 0.63 فیصد کم ہے۔ طرح نومبر میں دال چنا کی فی کلواوسط رینل قیمت ا كتوبريس دال مسور اوسط ريش قيمت 323.01 229.43 روپے ریکارڈ کی گئی جواکتوبر کے مقابلے روپے ریکارڈ کی گئی تھی۔نومبر میں دال مونگ کی

اوسطارينل قيت276.47روپيريکارڈ کی گئی جو 🏿 ميں 2.31 فيصد کم ہے۔اکتوبر ميں دال چيا کی فی کلو اكتوبرك مقابلي من 1.11 فيصدكم ب- اكتوبر الوسط قيت 234.86روپ ريكارو كى فى كان

42.00

گرال وفاقی وزیرتجارت ،صنعت و پیداوار دُاکٹر گو برا عجاز اور ترک جم منصب عمر بولات

کراچی (کامرس ڈیسک) گلراں وفاقی وزیر | نہیں ہیں جس کی ضرورت ہے کیونکہ تر کئے اور یا کتان مضبوط تجارتی، اقتصادی، سفارتی اور مشتر کہ ثقافتی تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر گوہراعجازنے ذکر کیا کہ ترکئے اور یا کستان کے درمیان اگست 2022 میں تربیحی تجارتی معاہدہ انہوں نے بہترین سطح پرسر مامیکاری کے نظ مواقع | PTA) پر دستھ اوع تھے، جو دونوں ممالک کے

ماسٹر کارڈ اور نیم کا پاکستان میں امبیڈ ڈ فنانس کا سنگ بنیا د

دوست ڈیبٹ کارڈز اور اس جیسے مختلف پروؤکش کے ذريع ياكتان مين ايمبيدُهُ فائتانس كو پذيراني دينا چاہتے ہیں۔اس شراکت داری کے ذریعے، ڈیبٹ اور ورچوک کارڈ جاری مول کے جس میں کو برانڈنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ میلینس اورلو یا ٹھی کارڈز کا اجراء بھی جلد کیا جائے گا۔اس موقع پر نیم کی بانی ولاد يميرا برائیسٹینسکا کا کہنا تھا کہ 'انجھلے پچاس سال ہے ماسٹرکارڈ اپنی ٹیکنالوجی، نیٹ ورک اور عالمی پہننج کے ذريعة ابية صارفين كومالي سيكيورثي فراجم كررباب بم ایک شامل مربوط مضبوط اورقابل آوسیع نظام کوبنانے میں كوشال بين بهم ايمبيده فائتأس كوايك بنيادي پليث فارم كےطور پرد كيميتے ہيں جو كمينيوں كوستقبل ميں مالى خدمات فراہم اور استعال کرنے کے لیے موثر

ماسر کارڈ کے ساتھ شراکت داری ایمبیڈ ڈ فائنانس کے

نیم کی بانی ولا دیمیرابرائیسشینه کا ، ماسر کار دیمینا کے کلسٹر جزل منیجر ہے۔ کے خلیل ، ارسلان خان فواورضاود يكركامشتر كممعابدے كےموقع يركروپ فوثو

ادارے مزید قریب آئیں گے۔ رفق سلیمان نے کہا كد20 = 25 ارب ۋالرزكى برى سرمايدكارى آئنده دنوں میں شروع ہونے سے پاکستان کی معیشت کو استحام ملے گا اور ملکی برآ مدات میں بھی تیزی آئے کی۔رفیق سلیمان نے بواے ای کی جانب سے جائنا پاکستان اکنا مک کورا دور(سی پیک) میں بھی شمولیت کی پنشکش پرمسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ کی پیک میں یو اے ای کے شامل ہونے سے میہ مصوبہ مزید مضبوط مركهائل اليحينج مين22.002 بلين ہوگا۔رفیق سلیمان نے کہا کہ پاکستان میں سرماییکاری کے وسیع مواقع ہیں اور میں قونصل جزل کی اس بات

ے منفق ہوں کہ پاکستان کے مثبت ایسی کواجا گر کرنا

بے حد ضروری ہے، پاکستان کے برنس مین بواےای کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ کے الیکٹرک کی ڈسکوزبلنگ انکوائری

ر پورٹ پرنیپرا کا اظہاراطمینان

ڈیوائس استعال کرنے والا واحدادارہ ہے۔ بینڈ ہیلڈ ڈیوائس میٹرریڈنگ کی شفافیت کویفٹنی بنانے کے لیے مورطريقه ب-ترجمان كالكثرك فيمزيد بتايا مقرر کردہ مدت کے مطابق یائی گئے۔ کے الیکٹرک کی

كدر بورث ميس ك الكثرك كى ماباند بلنك نيراكى بانب سے بلنگ سائیل میں کوئی لا پرواہی نہیں یائی کئی۔کراچی کے پروٹکٹ صارفین کی بلنگ میں سلیب کا ردو بدل نہیں پایا گیا جوخوش آئند ہے۔رپورٹ میں اٹھائے گئے دیگر نقاط کے حوالے سے نیپر ااتھارٹی کے ساتھ تفصیلات شیئر کی جائیتگی۔

27.111ملين رويدري

44.00

كرنحى ماركيث ريثس غيرمكى كرنبي غير ملكي كرنسي تيت فروخت قيت فروخت قيت فريد 282.50 284.75 امريكي ۋالر 285.50 امریکی ڈالر انثربينك اوين ماركيث 78.00 77.30 اماراتی ورجم سعودی ریال 356.50 307.00 360.00 برطانوى پاؤنڈ 310.00 يورو أسريلين ذال جاپانی ین 188.00 187.00 1.94 1.89 چيني يوان

211.00

209.00

گیس کی قلت کو دورکرنے کیلئے ٹارگٹ ہے کہ 2.8 ملین ٹن سیلینڈ رز بنا ئیںجسلی مالیت 107 ملین ڈالرز بنتی ہے،مسرور خان کا ایف پی سی آئی میں خطا، لمیٹی کے کنوینرعلی حدید نے بھی خطاب کیا جبکہ نائب کراچی (کامری رپورش)چیئر مین ائل ایند گیس صدر الجينرام اے جبارهای يعقب، حاجی عنی جھونی صنعتوں میں ایل بی جی كے سال بر هدے إلى ریگولیٹری اتفارٹی (اوگرا) مرور خان نے کہا ہے کہ یا کستان کی معیشت میں آئل اینڈ کیس سیٹر کا اہم رول ہے عثان عمران ٹیسوری بھی موجود تھے چیئر مین اوگرانے ، ایل فی جی کے مسائل ملک بجر میں میدم بڑھے كراچي ميں ايل بي جي غير قانوني طريقے فروخت آیا کیتان میں آئل اینڈ کیس بکٹر میں بڑی سرمایکاری کے مواقع موجود ہیں، کیس کی قلت کودور کرنے کیلئے اوگرا کا 107 ملین ڈالرز بنتی ہے چیئر مین اوگرا کا اعتراف کیا کہ

ٹارگٹ ہے کہ 28ملین ٹن سیلینڈرز بنا کیں جسکی مالیت تھا کہ کراچی میں ایل کی جی غیر قانونی طریقے سے فروخت مورى بيجس طرح سايل في جي كي فيلنگ چانچ پڑتال کیلئے جلد لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جائیگا بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب انبول نے ان خیالات کا اظہار پیرکوالف کی سی آئی بن سلتاب -سرورخان نے کہا کہ ملک جرمیں2 ہزار میں کاروباری برادری سے خطاب اور میڈیا کے سوالوں کے

اسٹاک ایمپیخ بلڈنگ،اسٹاک ایمپیخ روڈ، کراچی،بشمول ویڈ یولنک کی سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امر کی اعجام دی کیلئے منعقد کیاجائیگا۔

ہونے کی اطلاع دے کر خطرے کی تھنٹی بجادی انکا کہنا

مُلِ كِرِ ملك بحر كِيليَة فِي اللَّ فِي جَي كَي بِالنِّسي بِناريج مِينٍ ، اوگراک ٹاسک فورس میمیں ایل فی جی کی معیارکوبہتر کرنے كيليخ آيريش كري كى اوكرائ السنس حال افرادكونى ایران سے پانچ ہزار ٹن گیس امپورٹ کی جاتی ہے جس میں شکایات آرق میں ، ایران سے چینچے وال گیس کی میں شکایات آرق میں ، ایران سے چینچے وال گیس کی کیس بحرکر چلاتا ہے،اس میں دیکھا کہ خاتون اور بچے اناقص سلینڈر کی خریداری موت خرید نے کے مترداف جواب دیتے ہوئے کئی۔اس موقع پرایف پی می آئی 🖰 نے باورز کا قیام کرنا ہے جس ہ40 ہزار ٹن ایل پی جی ایس میں کرنا چی بیس ایل پی بی کا میسٹی معیاد کیوکر

بذر يعه بذا مطلع كيا جاتا ہے كدسنده بائى كورث بمقام كرا ہى بيس ماعت كرده پليش بابتد J.C.M نمبر 2023/2023 مول متفرق درخواست نمبر 2559/2023 بين منظور كرده جمكم بتاريخ

22 نومبر 2023 ("حكم" ) كيمطابق، مارف حبيب لميثار (" كميني" ) كاغير معولي اجلاس مام ("EoGM" ) بروز منظل مورخه 26 دسمبر 2023 مسح 11:00 بيخ PSX آؤيلوريكم،

سندھ بائی کورٹ کے حکم کے مطابق کمینی اوراس کی بولڈنگ/ بیرزٹ کمینی ("AHCL")، کی مثبلہ معاملات کے ساچھ، کارپوریٹ تشکیل نوائنظم نو،بشول AHL کی دوحصوں میں تقتیم/علیمدگی، بعنی فریمرط انڈر شیکنگ اورر مینیڈ انڈر نمیکنگ ، اورشوایت، اورڈ بیرجڈ انڈر نمیکنگ کو "AHCL" میں انتخام اورشولیت کیلئے ، اس کے ذیلی معاملات کے ساتھ،

مندر کہ ذیل قرار داد پرغور دخوش کرنااور، اگر مناسب ہوتو ہڑمیم یا باہاترمیم ، اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 17 نومبر 2023 کے مطابق جسکی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 17 نومبر

کے اپ رسلینڈ فروفت کرنے کا موبائل یونٹ دیکھا عمالورای طرح بڑے حادثات ہوتے ہیں سینئر نائب صدرانف في ي ي آئي سليمان چاؤلدف كهاكه خوشي ال بات كى كى كى كى فىللاك مايركواصل جلد يرتعينات كيا كياب مرورخان كاآئل ايندكيس كاوسيع تجريد كهة بالجيئر مين اوگرامسرورخان في يجهي اعتراف كياكه بن، پاکستان کی معاشی رقی میں آئل اینڈ کیس کا اہم قرار ملك بحريس ايل يي جي سيكثريس حادثات برهنا شروع كيينرناب مدرسليمان چاولداورايل يي بي اشينزنگ مصل مول، ملك مين ايل يي بي كااستعال بزهتا جاربا 🏿 بريشان موكيا مول مبينغي معيار كي مينا وگراتبا 🔻 مسائل مي حاكري گـــــ

ہے،اس کی آگاہی کے لئے میڈیا کی بھی مددلیں کے

ہیں۔چیئر مین اورانے اعلان کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ

ڈویژن ) اور عبداللہ مال کے اشتراک سے تین روزہ چۇقى"وۋىن آرث ايند كرافك ايكسپو"30 نومبرتا2 مجينين كرسكتاس كيليع عوام كوبهي ساتهددينا موكا مسرور خان نے کہا کہ ایل ٹی جی کی پیداواری صلاحیت مقامی د مبر 2023ء کو افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا ماركيث مين ال وقت يوميد 2.5 بزارتن سے بڑھ كر4.5 ملك كاتر في مين اجم رول ب، آرث كرافث صنعت كو اجاگر کرنے کا مقصد خواتمین کو بااختیار بنانا ہے، میں كامياب ووكن آرث ايندُ كرافث اليسيو پريشطين بالخصوص باني صدر دبليوي ي آئي ميدُم بينش افخار قادری کومبار کباد دیتا ہوں۔صدرعد مل صدیقی نے کہا کہ ایکسپوگرا ہوں متوجہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے : خواتین سوشل میڈیا پر بھی مصنوعات کی مارکیٹنگ ہے فائدہ اٹھائیں،خواتین دستکاری سے ملبوسات، پرس، چوڑیا،رلیال، مشن کور، جیوئیلری مصنوعات خواتین کے

اوراقتصادی ترقی میں معاونت کرناہے، ہم زیادہ سے حيدرآباد (بيورور يورث) نامور صنعتكار حيدرآباد چيمبر زیادہ روزگارے مواقع پیدا کرنے پرکام کرے ہیں، آف کامرس اینڈانڈسٹری کےصدرعدیل صدیق نے ترقى يافة ممالك كي معيشت مين خواتين كابزا كردار وومن چيبر آف كامرس ايند اندسرى (حيدرآباد ب،علاقائي معيشتول سرى انكا، بنگلديش، بحارت اور چين مين بھي خواتين معاشي ترتي مين نماياں حصير تھتي بي، وومن چيمبرآف کامرس اينداندُ سُري مستقبل ميس بھی ایسے ایونٹ کا انعقاد کا سلسلہ جاری رکھے ، اس حکمت عملی سے خواتین کے کاروبار میں ترقی کے

حيدرآ بادمين وومن آرث اينژ كرافث ايكسپوكا كامياب انعقاد

ہزارش ہوگئی ہے،ایل نی جی کیس کی تیاریوں میں اس وت 1.5 فيصداستعال موتى بجوستقبل مين 5 فيصد امكانات روش ميں۔ وومن چيمبر آف كامرس ايندُ ہوجائے گی۔چیئر مین اوگرانے مزید کہا کہ ورتی میں ایک انڈسٹری (حیدرآباد ڈویژن ) کی بانی صدر میڈم بینش افتخار قادری نے حیدرآباد چیمبرآف کامرس اینڈ اندسری کے صدر عدیل صدیقی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ڈبلیوی می آئی وومن آرٹ اینڈ کرافٹ اليسيوكا مقصدآرث بينذي كرافث صنعت كواجاكر کرنا ہے، ہماری کوشش ہے کہوہ خواتین جو گھرول میں بیڑ کر نقافتی دستکاری سے نت نے ڈیزائن کی ہنراور کمال کی بہترین تخلیق ہیں۔حیدرآباد چیمبرآف كامرس اينذانذ سرى كابنيادي مقصد تجارت وصنعت

تبلٹ پییر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ

بروز منگل مورند 26 دسمبر 2023 منج 11:00 بج PSX آؤیٹوریم، اسٹاک کیچینی بلڈنگ، اسٹاک کیچینی روؤ، کراچی میں منعقد ہونے والےغیر معمولی اجلاس عام ("EoGM" ) میں اور الیکٹرانک ذرائع ہے زیرغورآنے والخصوصي اموركي ووثنگ كيلئے۔

چیئز مین کے مختف کردہ ای میل ایڈریس <a hariman.generalmeeting@arifhabibltd.com پر مكمل يُرشده ببليث يبير بصححاسكتر ببر

من پرشده بیکٹ بیپر بیچ جاستے بیل-	
شيئر بولدر / جوائث شيئر بولدر (ز) / پراکسي بولدر (ز)	
ربسنراديت	
فولیو / ی ڈی می شرکت کننده / انویسٹر ID بمعدذیلی	
اكاؤنث ثمبر	
حصص کی تعداد	
شاختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں)	
(کایی شلک کی جائے)	
اضافی معلومات اورمنسلکات (باؤی کارپوریث، کارپوریش اور	
وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں )	
ىجا زدستخط كىنىدە كانام	
شاختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں ) مجاز	
وستخط كننده - (كالي مشلك كي جائے)	

ہم/ میں درج ذیل قرار دادوں کے بارے میں اپنی رضامندی/ اختلاف ظاہر کرنے کیلئے قرار داد کے سامنے خانے میں نک ( 🗸 ) کانشان لگا کراپناووٹ بذریعہ پوشل ہیلٹ استعمال کررہے ہیں:

يں/م شيئرز كى تعداد مم ين قرارداد مے متفق قرارداد كى نوعيت اور تفصيل قراردادے جن كيلئے ووٹ متفق تهيل بين/ بون الا *گيا* ايجنذارالف (خصوصیام) سندھ بائی کورٹ کے حکم کے مطابق کمپنی اور اس

کی جولڈنگ/پیرنٹ کمپنی ("AHCL")، کی منجملہ معاملات کے ساتھ، کارپوریٹ تشکیل نو/ تنظیم نو، بشمول AHL کی دو حصوں میں تقتیم/ علىجدگى، يعنى ۋىمرجۇ انڈرنىيكنگ اورريىھىنڈ انڈر نیکنگ، اور شمولیت،اورڈ یمرجڈ انڈر ٹیکنگ کو "AHCL" میں انضام اور شمولیت کیلئے، اس کے ذیلی معاملات کے ساتھ ، مندرجہ ذیل قرارداد پرغوروخوض کرنا اور، اگر مناسب ہوتو، ترميم يا بلاترميم ، اسكيم آف ار ينجمنك بتاريخ 17 نومبر 2023 کے مطابق ،جسکی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 17 نومبر 2023 کومنظوری دی ہے،منظور کرنا۔ "قرار پایا که مارف صبیب کمیٹڈ کی منجمله معاملات کے ساتھ دوحصوں میں تقشیم/علیحدگی، یعنی ڈیمرجڈ انڈر میکنگ اور ریٹینڈ انڈر میکنگ،اس کے ذیلی معاملات کے ساتھ ،ڈیمرجڈ انڈرٹیکنگ کو "AHCL" میں انضام اور شمولیت کی اسکیم آف ارىنجمنٹ بتارىخ 17 نومبر2023، جوڭمپنيزا يكٹ 2017 كى دفعات 279 سے 283 اور 285 كے تحت مرتب کی گئی ہے، اور اجلاس میں غور وخوض اور منظوری کیلئے پیش کی گئ ہے، بشمول کمپنیز ا يكث 2017 كى دفعات كے مطابق سدھ بائى کورٹ ، کراچی کی جانب سے عائد کرد و کسی بھی ترمیم/ تبدیلی کےمطلوبہ شرائط وضوابط اور تقاضوں ے مشروط، بذریعه بذامنظوراوراختیاری جاتی ہے

> 1 مجیح طریقے سے پُرشدہ بیلٹ پیپر عارف حبیب سینٹر، 23 ،ایم۔ ٹی۔ خان روڈ ، کرا چی میں ڈاک کے ذریع (ممین سکریٹری کومتوجہ کرکے) یا قصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل ہے

chariman.generalmeeting@arifhabibltd.comيرارسال كيَّ جا نُين \_

2\_ پوسل بیلٹ فارم کے ساتھ شاختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں ) کی کانی جمع کرانالازی ہے۔ 3۔ پوشل ہیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یاای میل چیئز مین تک بروز پیر 25 دسمبر 2023 شام 5:00 بجے سے پہلے پینچ جانے چامین مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووٹنگ میں شار نہیں کیے جائیں گے۔ 4۔ پوسل بیلٹ فارم پرموجود وسخط شاختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں )ے مماثل

5۔ نامکمل ، غیردستخط شدہ ، فلط ، چھٹے ہوئے ، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ بیپرمستر دکرد تیے جائیں گے۔ 6- يە پوشل بول پىيرىمارف ھىبىب كىيىند كى دىب سائت

(https://arifhabibltd.com/investors-relations/BallotPaper-EOGM-2023-AHL.pdf) ڈاؤن اوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔شیئر ہولڈرزویب سائٹ ہے بیلٹ پیپرڈاؤن اوڈ کرسکتے ہیں یاا خبارات میں شائع ہونے والے اس بیلٹ بیپر کواستعمال کرسکتے ہیں۔

> دستخطشيئر مولڈر(ز)/پراکسی مولڈر(ز)/مجاز دستخط کنندہ ( کاروباری اداره مونے کی صورت میں کمپنی کی مبراگائیں) مقام:\_\_\_\_\_ تاریخ : \_\_\_\_\_

> > رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس

عارف صبيب سينظر، 23، ايم في خان رود ، كرا چي، پاكستان

شیل فون : info@arifhabibltd.com | انگیس : 92-21-32429653 | ان میل : info@arifhabibltd.com | ویب بات :

کمپنیزا کیٹ 2017 کی دفعہ 279اور 282 کے تھے کمبران کی مطلوبہ اکثریت سے منظوری کیلئے پیش کی جانے والی قرار داد حسب ذیل ہے: ''قرار پایا کہ عارف صبیب کمیٹڈ کی مجملہ معاملات کے ساجہ دوحصوں میں گئتیم/علیحدگی، یعنی ڈیمر جیڈ از کریکٹک اورر بھیٹڈ انڈر رنیکٹک ، اس کے ذیلی معاملات کے ساجھ، ڈیمر جڈ انڈرلیکنگ کو"AHCL" میں انتهام اور شمولیت کی اسکیم آف ارینجنٹ بتاریخ 17 نوم ر2023 ، جو کمپنیز ایک 2017 کی دفعات 279 سے 283 اور 285 کے تحت مرتب کی گئی ہے، اور اجلاس بین غور و نوش اور منظوری کیلئے پیش کی گئ ہے، بشول کمپنیز ایٹ 2017 کی وفعات کے مطابق سندھ بائی کورٹ، کراچی کی جانب سے مائد کردہ سی بھی نِرمیم/ تبدیلی کےمطلوبہشرائط وصوابط اور تقاضوں ہےمشروط، بذریعیہ پذامنظور اوراختیار کی جاتی ہے۔'' اسكيم آف اريجمنث منده بائي كورث، كرائي كى منظورى مع مشروط موكى -بحكم بورد ئىپن*ىيرىي*رى

كرا في :5 دسمبر 2023 کینی کا منتقلی عصص کی کتب18 و بمبر 2023 تا 26 و بمبر 2023 (بشول دونوں دن ) بندر بیں گی۔ جماری کمپنی کے شیئر رجسٹر ارمیسرزی ڈی می شیئر رجسٹر ارسر وسز کمیٹل کے دفتر واقع می ڈی می ہاؤ س، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم می انتخ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی [ کمپین کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) ] کوجمعہ 15 دمبر 2023 کواختنام کارتک موصول ہونے والی منتقلیاں EOGM بیں شرکت اوررائے دی کی اہلیت کے تعین کیلئے بروقت مجھی جائیں گی۔ 2. اجلاس بذائين شركت اوررائ دى كيليكيني كالك الم ممبرائي جانب سے شركت اوررائ دى كے ليدوس عمبركواپنا پروكس مقرركرسكتا / كرسكتي ہے جے ممبرك طرح تمام

3. سیکیورٹیزائیڈ ایٹھیج کمیشن آف یا کستان کے جاری کردہ سرکا خمبر 1ریفرنس نمبر 3 ( 1اے ) متفرق اے آراد/ ایل ای ایس/ 96 مورخد 26 جنوری 2000ء میں درج بدایات

i-ممبران، پراکسیوں یانا مزدافراد کواپٹی شناخت کے لیے EOGM میں شرکت کے موقع پراصل قومی شناختی کارڈیاصل یا سپورٹ پیش کرنا ہوگا اورا پنافو لیونمبر ہمراہ لانا ہوگا۔ اا - کار پوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قرار دادار پاورآف اٹارنی اور نامز دفرد کے قومی شاختی کارڈیا پاپسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (آگر پیپلے فراہم یہ کی گئی ہو)اجلاس کےموقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

🚻 مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخطا اور مہر شدہ اور دو گواہوں کے نام، پیہ، قومی شاختی کارڈنمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنظ قبل کمپنی ك شير رجسر ار (CDCSRSL) كرفتر يرموصول بوجانے جا بسين ١٧-انفرادي صورت مين بينيفيش آخراور پراکسي كے توى شافتى كارؤيا پاسپورٹ كى تصديق شده كاپياں پروکسى فارم كے ہمراه منسلك كرنى بول گ-٧- كار پوريث ادارے كے پروكسى مونے كى صورت ميں بورة آف ڈائر يكرزكى قرارداد/ پاورآف اٹارنى اور پروكسى كے قو مى شاختى كارڈ ياياسپورٹ كى تصديق شده كايي پروكسى

فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی 4. غيرمغولي اجلاس عاميس آن لائن شركت

چیئز مین کی اجازت ہے دیگرامور کی انجام دی۔

(ب)-ويگرامور

کمپنی اس EOGM میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کویشین بنانے کے لیے انکی ہذات فودموجود گی کے ساتھ ساتھ وڈیولنگ کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کرری ہے ۔لہذا آن لائن شرکت کے متمنی تمام اہل شرکاء اورمبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی کی (دونوں اطراف ) کائی کے جمراہ secretariat@arifhabibltd.com پر بذریعه ای میل برائے"Registration for AHL EOGM 2023" کے عنوان سے اجلاس بذا کے انعقاد ہے کم از کم ارتبالیس

ایمیلایڈریس	25.	فوليونمبر/سي ڈيسي/ا کاؤنٹ نمبر	2-17-11	16V 2
10-01	موبائل نمبر	توليوجران دي ي افادت جر	سى اين آئي سي تمبر	ممبركانام
		ا ا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پرمشمل	. (16	1.1 16 64

5 – وڈیولنک کی سہولت کی فراہمی کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روزقبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دیں فیصدیا زائد شعیرً ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ والح پیلنگ EOGM میں شرکت کی درنواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وڈیولنک سہولت کا ہتمام کر یکی (ایسے شہر میں اس کی دستیا بی ہے مشروط )۔ ہذر بعدوڈیولنک اجلاس میں شرکت کے متنی ممبران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب 'وڈیولنگ فیسیلٹی فارم''پز کر کے کمپنی کے دجسٹرڈ پند پرارسال کردیں۔واضح ہو کہ

ممبريا پروكسى كےعلاوه كوئى فردويا يولنك كانفرس مين شركت كاابل خهيس موگا-6- ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعےرائے دہی

EOGM میں رائے دی یعنی ووٹنگ کے لیے میٹنگ کے لیے مختص مقام پر پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔ 7-اي-ووفنگ/يوسل بيلث

ممبران کو بذریعه بذامطلع کیا جاتا ہے کہ مینیز ایک، 2017 کی دفعہ 144-143اور 2022(1)2022مورند و تومبر 2022اور کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ممبران کواس میں بیان کی گئی شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپناختی رائے دہی استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔رائے وہی یعنی ووٹنگ کے لیےممبران کو درج ذیل متباول اختیارات فراہم کیےجارہے ہیں:

i- ای-دوشک کاطریقه و کار (1) ای۔ ووٹنگ سبولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ای میل کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائز قومی شناختی کارؤ نمبر، موبائل نمبراور ای میل ایڈریس 15 دسمبر2023 کواختام کارتک مینی کے رجسٹریس دستیاب ہول گے

(ب) ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے سیکورٹی کوڈز، ای ووٹنگ مروس فراہم کرنے والے کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس (SMS) اورای میل کے ذریعے مبران کو بتائے جائیں گے۔

(ج) ای – ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کااراد در کھنے والے اراکین کی شاخت الیکٹر ونک دستھط یالاگ اِن کرنے کے لیے فراہم کر دوٹصدیق کے ذریعے کی جائے گا۔ (د) ای — ووٹنگ کی ائٹیں 20 دسمبر 2023 کوفیح 09:00 بجے کے کھلیں گی اور 25 دسمبر 2023 کوشام 05:00 بجے بند بھوں گی ۔ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے بیں۔ایک بارنسی ممبر کی طرف ہے قرار دادپرووٹ ڈالنے کے بعدا ہے تبدیل کرنے کی اجازت مہیں ہوگی۔

(1) ممبران متبادل طور پر پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔بیلٹ بیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.arifhabibltd.com نے اوان لوڈ کے لیے دستیاب

ہے۔اس نوٹس کے ساٹھ بنسلک اورا نہارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر بھی رائے وہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ (ب) ممبران اس بات کو چین بنائیں گے کہ اجلاس کے چیئر بین تک صحیح طریقے ہے پُرشدہ اور دشخط شدہ بیلٹ بیپر، ممبیو الزائز وہی شاختی کارڈ (CNIC) کے ساتھ مارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ ، کراچی میں ڈاک کے ذریع ( کمپنی سیریٹری کومتوجہ کرکے ) یاحصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل ہے chariman.generalmeeting@arifhabibltd.comپر بذریعهای میل "Postal Ballot for AHL EOGM 2023" کے عنوان سے 25 وتمبر 2023

بروز پیرشام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹر ائز ڈوقو می شافتی کارڈ کے دستخط ہے مماثل ہونے چاہیل مقررہ وقت اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسل بيلٹ ووئنگ ميں شامل مہيں ہوگا۔ (ج) براہ کرم نوٹ کریں کدووٹنگ میں کی تنازع بشمول ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں،میٹنگ کے چیئر مین فیصلہ کرنے کے مجاز ہوتگے۔

8-ممبران کی جانب معلومات کی فراہمی مختلف توانین کی فلمیل ،اور کسی بھی قانون کی عدم فلمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہے بچنے کے لیے تمام ممبران کومشورہ دیاجا تا ہے کہ و مندر جہذیل معلومات/ وستاویزات/ امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/س ڈی می انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کمپنی کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کوفراہم کردیں اے رابط کریں:

– درست ی این آنی سی/ این فی این سرٹیفکیٹ/ز کواۃ استثنی سرٹیفکیٹ/فیکس استثنی سرٹیفکیٹ کی فراہمی ۔ - درست بینک اکاؤنٹ کے تفصیلات اور / IBAN کی فراہی تا کہین گزشتہ یا مستقبل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگا کرسکے۔

۔ جوائٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں بڑنیل شیئر ہولڈراورجوائٹ شیئر ہولڈر کے شیئر زکے درمیان تناسب۔ - فریکل شیئرز کی اسکریپ لیس صورت میں منتقلی ،جس سے مبران کوئی انداز میں سولت ملے گیجس میں محفوظ تھو میں ،مستعد خرید و فرونست اور دیگر کار پوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔ مینیزا یک 2017 کی دفعہ 119ور کمپنیز ( جنرل پرویشن اینڈ فارمز ) ریگلیشن 2018 کی شق نمبر 19 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات بشمول مو ہائل نمبر/لینڈ لائن نمبراورانی میل ایڈریس کی فراہی۔ - اِپ بت ، ای میل ایڈریس اورمو بائل نمبر میں می تعم کی تبدیلی تحریری طور پر کمپن کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کوفوری اطلاع۔

9- كمينى كے ميمورندم ايند آر شيكلز آف ايسوى ايشن؛ ايك كى دفعه (3) 134 كے تحت خصوصى امور سے متعلق کھوس حقائق كابيانيد؛ ايكٹ كى دفعہ 281 كے تحت بيانيد؛ اسكيم آف ارينجمنث بتاریخ 17 نومبر2023؛ یوسف عادل، چارٹر اکاؤنٹٹس کی جانب ہے جاری کردہ مویپ کمپیوٹیش لیٹر بتاریخ 15 نومبر2023، اور کمپنی کے حوالے سے خصوصی امر سے متعلق کوئی بھی دیگرمعلومات، ان تمام دستاه برزات کی کاپیان کمپنی کے دجسٹر ؤ آفس بمقام عارف حبیب سینشر، 23 ،ایم کی خان روؤ ، کراچی میں نوٹس بذاکی تاریخ ہے EOGM کے اختتام تک ،عموی دفتری اوقات کے دوران EOGM میںشر کت کیلئے اہل فرد کو بعوض درخواست ،معائنے کے لئے بلامعاو ضد دستیاب ہوں گی۔ مذکورہ معلومات EOGM کے دوران کمپنی کے ممبران کے معائنے

EOGM-10 كانولس بشمول بيانات ، اسكيم آف ارينجمنث اورتازه ترين سالانة آؤث شده مالياتي گوشوار يجهي كمپني كي ويب سائث برآويز ال كرديته كيفيين -خصوصی امورے متعلق کمپنیزا میک 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیانیہ EOGM بیل میں انجام دئے جانے والے خصوصی امور کے گھوس حقائق سے متعلق بیانیہ، بشمول اسکیم آف ارینجمنٹ کے حوالے سے کمپنی کے ڈوائر بکٹرز کے مفادات اور نوعیت ، جمع کسی بھی ذیلی معلومات کے بمپنی کے رجسٹر ڈو آمنس واقع عارف حبیب سینٹر، 23 ایم ٹی خان روڈ ،کراچی سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی فر دبعوض درخواست عمومی دفتری اوقات

کے اثرات بمع دیگر ذیل معلومات ، کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس واقع عارف حبیب سینٹر، 23ایم فی خان روڈ ، کراچی سے EOGM میں شرکت کا اہل کوئی بھی فر دبعوش درخواست عموی دفتری

میں بلامعاوضہ حاصل کرسکتا ہے۔ مذ کورہ بیانیم مران کو EOGM کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کیا گیا ہے۔ خصوصی امورے متعلق کمپنیزا یکٹ 2017 کی دفعہ 281 کے تحت بیانیہ کمپنیزا یکٹ2017 کے دفعہ (a)(281 کے تحت بیانیہ جس میں اسکیم آف ارینجنٹ کی شرائط اور اس کے اشرات کی وضاحت ، بشمول کمپنی کے ڈائر یکشرز کے مفاوات ، اور ان مفاوات

اوقات میں بلامعاوضہ حاصل کرسکتا ہے۔ مذکورہ بیانیہ مبران کو EOGM کے فوٹس کے ہمراہ ارسال کیا گیاہے۔